

Num

Chapter 6

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
اور-بولے اور-یہوواہ سے موسیٰ کہتے-ہوئے
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

2 דִּבֶּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶמְרָתְךָ אֲלֵהֶם אִישׁ אֶזְ-אִשָּׁה כִּי יִפְלֹא
بولے سے بنی اسرائیل اور-کہہ ان-سے مرد یا عورت خاص-نذر-مانے
H1696 H0413 H3478 H0559 H0413 H0376 H0802 H6381

לְנֹדָר נָזִיר נָזִיר נָזִיר
نذر-مانے-کو نذر نذیر-کی نذیر-ہونے-کو لہذا:
H5087 H5088 H5139 H3068

کرے-مخصوص لئے کے رب لئے کے وقت مقررہ ایک کو آپ اپنے کر مان مانت عورت یا آدمی کوئی اگر کہ دینا ہدایت کو اسرائیلیوں

3 מִיָּיִן וְשִׁכָר וְזֵיֵר חֲמֹץ יַיִן וְחֲמֹץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתָּה וְכֹל-מִשְׁרַת עֲנָבִים
مے-سے اور-شراب جدا-بو سرکہ مے-کا اور-سرکہ شراب-کا نہ پیئے اور-کوئی رس انکور-کا
H3196 H7941 H2558 H3196 H2558 H7941 H3808 H354 H3605 H4952 H6025

لֹא יִשְׁתָּה וְעֲנָבִים לְחִים וַיִּבְשִׂים לֹא יֹאכְל:
نہ پیئے اور-انگور تازہ اور-خشک نہ کھائے
H3808 H8354 H6025 H3892 H3002 H3808 H0398

کھائے۔ نہ کشمش یا انگور وہ رس۔ کا انگور نہ پیئے، سرکہ کا چیز اور کسی یا انگور وہ نہ پیئے۔ نہ چیز اور نشہ اور کوئی یا مے وہ تو

4 כָּל-יְמֵי נְזִירוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מִחֲרָצִים וְעַד-
سب دنوں اپنی-نذر-کے کسی-بھی جو بنائی-جائے انگور-کی-بیل-سے مے-کی بیجوں-سے اور-تک
H3605 H3117 H5145 H3605 H5145 H1612 H2785 H5704

זָג לֹא יֹאכְל:
چھلکے نہ کھائے
H2085 H3808 H0398

کھائے۔ نہ بھی چھلکے یا بیج کے انگور کہ تک یہاں کھائے، نہ پیداوار بھی کوئی کی انگور وہ بے مخصوص وہ تک جب

5 כָּל-יְמֵי נְזִירוֹ תַעֲרֹךְ לֹא-יַעֲבֹר עָלָי-רֹאשׁוֹ עַד-מְלֵאת מַלְאֵת הַיָּיִן
سب دنوں نذر اپنی-نذر-کے اُسٹرا نہ پھرے پر اُس-کے-سر تک پورے-ہونے دنوں-کے
H3605 H3117 H5088 H5145 H8593 H3808 H5704 H4390 H3117

אֲשֶׁר-יֵרֵד יְהוָה לִיהוָה קָדֵשׁ יְהוָה בָּזְהֵנָה גִּדְלָה פָרַע שָׁעָר רֹאשׁוֹ:
جن-میں نذیر-بو یہوواہ-کے-لیے مقدس ہوگا بڑھنے-دے لٹ بال اپنے-سر-کے
H3068 H6918 H1961 H1431 H6545 H8181

وہ تک دیر اتنی بے کیا مخصوص لئے کے رب کو آپ اپنے نے اُس لئے کے دیر جتنی کٹوائے۔ نہ بال اپنے وہ بے مخصوص مطابق کے مانت اپنی وہ تک جب
دے۔ بڑھنے بال اپنے وہ لئے اس بے۔ مقدس

6 כָּל-יְמֵי نְזִירוֹ יְמֵי نְזִירוֹ
سب دنوں اپنی-جدائی-کے یہوواہ-کے-لیے
H3605 H3117 H3068 H4191 H5315 H3808 H0935

جائے، نہ قریب کے لاش کسی وہ بے مخصوص وہ تک جب

7	لَأَبِي	وَلِأُمِّي	لَأَخِي	وَلِأَخِي	لَأ-	يَتِيمًا	لَهُمْ
	اپنے-باپ-کے-لیے	اور-اپنی-ماں-کے-لیے	اپنے-بھائی-کے-لیے	اور-اپنی-بہن-کے-لیے	نہ	ناپاک-ہو	ان-کے-لیے
	H0001	H0517	H0251	H0269	H3808		

بَنَاتِهِمْ	كِي	نَذِر	أَلِهِي	عَل-	رَأْسُو:
ان-کی-موت-میں	کیونکہ	نذر	اُس-کے-خدا-کی	پر	اُس-کے-سر
H4194	H5145		H0430		

کی بالوں لمبے مخصوصیت کی اُس تک ابھی جبکہ گا جائے ہو ناپاک وہ سے اِس کیونکہ ہو۔ نہ کیوں لاش کی بہن یا بھائی ماں، باپ، کے اُس وہ چاہے ہے۔ آتی نظر میں صورت

8	كُلِّ	يَمِي	نَذِرُو	كَلِش	هَوَا	لِيَهُوَا:
	سب	دنوں	اپنی-نذر-کے	مقدس	ہے-وہ	یہوواہ-کے-لیے
	H3605	H3117	H5145	H6918	H1931	H3068

ہے۔ مُقَدَّس و مخصوص لئے کے رب دوران کے مخصوصیت اپنی وہ

9	وَكِي-	يَمُوت	مِيت	عَلِي	بَفِتَع	بَتَام	رَأش	نَذِرُو	وَلِأَخ	رَأشُو
	اور-جب	مرے	مُردہ	اُس-پر	اچانک	ناگہانی	اور-ناپاک-کرے	سر	اپنی-نذر-کا	اور-مونڈے
	H4191	H4191			H6621	H6597		H5145	H1548	

بِنِمْ	بِنِمْ	بِنِمْ	بِنِمْ	بِنِمْ	بِنِمْ	بِنِمْ
دن-میں	اپنی-پاکیزگی-کے	دن	ساتویں	مونڈے-اُسے		
H3117	H2893	H3117	H7637	H1548		

آپ اپنے وہ کہ ہے لازم میں صورت ایسی گے۔ جائیں ہو ناپاک بال مخصوص کے اُس تو ہو قریب کے اُس شخص مخصوص جب جائے مر اچانک کوئی اگر منڈوائے۔ کو سر اپنے دن ساتویں کے کر صاف پاک کو

10	وَبِنِمْ									
	اور-دن	آٹھویں	لائے	دو	قمریاں	یا	دو	بچے	کبوتر-کے	پاس
	H3117	H8066	H0935	H8147	H8449	H8147	H8147	H3123	H0413	H3548

فَتَح	أَهْل	مُوَعِد:
دروازے	خیمے	ملاقات-کے
H6607	H0168	H4150

دے۔ کو امام اور آئے پر دروازے کے خیمے کے ملاقات کر لے کبوتر جوان دو یا قمریاں دو وہ دن آٹھویں

11	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا	وَعِشَا
	اور-کرے	کاہن	ایک	گناہ-کی-قربانی-کے-لیے	اور-ایک	سوختنی-قربانی-کے-لیے	اور-کفارہ-دے	اُس-کے-لیے	
	H3548	H0259	H0259	H0259					

مَأْشَر	مَأْشَر	عَل-	هَنْبَش	وَقَرِش	أَت-	رَأشُو	بِنِمْ	هَتِوَا:
اُس-سے-جو	گناہ-کیا	کے-بارے-میں	جان	اور-مقدس-کرے	کو	اپنے-سر	دن	اُس
H2398	H5315	H6942	H0853	H1931	H3117			

لاش جو گا دے کفارہ لئے کے اُس وہ یوں پر۔ طور کے قربانی والی ہونے بھسم کو دوسرے اور چڑھائے پر طور کے قربانی کی گناہ کو ایک سے میں ان امام کرے مخصوص دوبارہ کو سر اپنے وہ دن اُسی ہے۔ گیا ہو ناپاک سے ہونے قریب کے

12	وَهَزِير	لِيَهُوَا	أَت-	يَمِي	نَذِرُو	وَهَبِيَا	كَبِش	بِن-	سَنَتُو	لَأَشَم
	اور-نذیر-ہو	یہوواہ-کے-لیے	کو	دنوں	اپنی-نذر-کے	اور-لائے	بڑہ	سال	ایک-کا	جرمانے-کے-لیے
	H3068	H0853	H3117	H5145	H0935	H3532	H8141	H0817		

وَهَيَمِيم	هَرَأشِنِيم	يَفَلُو	كِي	سَمَا	نَذِرُو:
اور-دن	پہلے	گریں	کیونکہ	ناپاک-ہوئی	اُس-کی-نذر
H3117	H7223	H5307		H5145	

نے اُس دن جتنے کرے۔ بیش بچہ کا بھیڑ کا سال ایک پر طور کے قربانی کی قصور وہ کرے۔ مخصوص لئے کے رب دوبارہ لئے کے وقت مقررہ کو آپ اپنے اور سے دن پہلے دوبارہ وہ تھا۔ گیا ہو ناپاک میں حالت کی مخصوصیت وہ کیونکہ سکتے جا کئے نہیں شمار وہ ہیں گزارے میں حالت کی مخصوصیت پہلے کرے۔ شروع

13	וְזָאת	תּוֹרַת	תְּנִיזָר	בְּיוֹם	מְלֵאֵת	יְמֵי	נִזְרוּ	יָבִיא	אֲתוּ	אֶל-	פָּתַח
	اور-یہ	شریعت	نذیر-کی	دن-میں	پورے-ہونے	دنوں	اُس-کی-نذر-کے	لایا-جائے	اُسے	پاس	دروازے
	H2063	H8451	H5139	H3117	H4390	H3117	H5145	H0935	H0853	H0413	H6607

اَهِלَّ
خیمے
ملاقات-کے
موزعہ:
[H4150](#)
[H0168](#)

جائے لایا پر دروازے کے خیمے کے ملاقات اُسے پہلے تو ہو گیا گزر وقت مقررہ کا شخص مخصوص جب مطابق کے شریعت

14	וְהִקְרִיב	אֶת-	קָרְבָּנוֹ	לִיהוָה	כִּבְשֹׁ	בֶן-	שְׁנָתוֹ	תָּמִים	אֶחָד
	اور-قريب-لائے	کو	اپنی-قربانی	یہوواہ-کے-لیے	بزہ	سال	ایک-کا	بے-عیب	ایک
	H7126	H0853		H3068	H3532		H8141	H8549	H0259

اَחָד	וְאֵיל-	לְחֻטָּאת	תְּמִימָה	שְׁנָתָה	בֵּת-	אֶחָת	וּכְבֹּשָׁה	לְעֹלָה
ایک	اور-مینڈھا	گناہ-کی-قربانی-کے-لیے	بے-عیب	ایک-کی	سال	ایک	اور-بڑی	سوختنی-قربانی-کے-لیے
H0259			H8549	H8141	H1323	H0259	H3535	

תָּמִים
بے-عیب
سلامتی-کی-قربانی-کے-لیے
[H8002](#)
[H8549](#)

کی سلامتی اور بھیڑ سالہ یک بے عیب ایک لئے کے قربانی کی گناہ بچہ، نر سالہ یک بے عیب ایک کا بھیڑ لئے کے قربانی والی ہونے بھسم کو رب وہ وہاں کرے۔ پیش مینڈھا بے عیب ایک لئے کے قربانی

15	וְסֵלַ	מִצֹּת	סֶלֶת	חֲלֹת	בָּלוֹלוֹת	בִּשְׁמֶן	וּרְקִיקֵי	מִצֹּת	מְשָׁחִים	בִּשְׁמֶן
	اور-ٹوکری	بے-خمیر	میدہ	روٹیاں	ملی-ہوئی	تیل-میں	اور-پتلی-روٹیاں	بے-خمیر	چڑی-ہوئی	تیل-سے
	H5536	H4682	H5560	H2471		H8081	H7550	H4682	H4886	H8081

וּמִנְחָתָם
اور-اُن-کا-نذرانہ
اور-اُن-کے-تیاون
[H4503](#)
[H5262](#)

کی غلہ متعلقہ ہو گیا لگایا تیل پر جن روٹیاں بے خمیری اور ہو گیا ملایا تیل اور میدہ بہترین میں جن روٹیاں بے خمیری میں ٹوکری ایک وہ علاوہ کے اس ساتھ کے نذر کی مے اور نذر

16	וְהִקְרִיב	הַכֹּהֵן	לְפָנֶי	יְהוָה	וְעֹשָׂה	אֶת-	חֻטָּאתוֹ	וְאֶת-
	اور-قريب-لائے	کابن	سامنے	یہوواہ-کے	اور-کرے	کو	اُس-کی-گناہ-کی-قربانی	اور-کو
	H7126	H3548	H6440	H3068		H0853		H0853

עֹלָתוֹ:
اُس-کی-سوختنی-قربانی

چڑھائے۔ حضور کے رب قربانی والی ہونے بھسم اور قربانی کی گناہ امام پہلے کرے۔ پیش کو رب

17	וְאֶת-	הָאֵיל	יְעֹשָׂה	זָבַח	שְׁלָמִים	לִיהוָה	עִל	סֵל	הַמִּצֹּת	וְעֹשָׂה
	اور-کو	مینڈھا	کرے	ذبیحہ	سلامتی-کی-قربانی	یہوواہ-کے-لیے	ساتھ	ٹوکری	بے-خمیر-کی	اور-کرے
	H0853			H2077	H8002	H3068		H5536	H4682	

הַכֹּהֵן
کابن
اُس-کا-نذرانہ
اور-کو
[H0853](#)
[H4503](#)
[H5262](#)
[H0853](#)
[H3548](#)

چڑھائے۔ بھی نذر کی مے اور نذر کی غلہ امام کرے۔ پیش پر طور کے قربانی کی سلامتی ساتھ کے روٹیوں بے خمیری کو مینڈھے وہ بھر

18	وְגִלָּח	הַנְּזִיר	פֶּתַח	אֶהָל	מוֹעֵד	אֶת־	רֹאשׁ	נִזְרוֹ	וְלֶקַח	אֶת־	שְׁעָר	רֹאשׁ
	اور-مونڈے	نذیر	دروازے	خیمے	ملاقات-کے	کو	سر	اپنی-نذر-کا	اور-لے	کو	بال	سر
	H1548	H5139	H6607	H0168	H4150	H0853		H5145	H3947	H0853	H8181	

نִזְרוֹ	וְנָתַן	עַל־	הָאֵשׁ	אֲשֶׁר־	תָּחַת	זֶבַח	הַשְּׁלָמִים:
اپنی-نذر-کے	اور-ڈالے	پر	آگ	جو	نیچے	ذبیحہ	سلامتی-کی-قربانی-کے
H5145	H5414		H0784		H8478	H2077	H8002

پھینکے۔ میں آگ کی قربانی کی سلامتی بال تمام کر منڈوا کو سر گئے کئے مخصوص اپنے پر خیمے کے ملاقات شخص مخصوص دوران اس

19	וְלֶקַח	הַכֹּהֵן	אֶת־	הַזֶּרַע	בְּשֵׁלָה	מִן־	הָאֵילִם	וְחִלָּת	מִצָּה	אֶחָת	מִן־	הַסֵּל
	اور-لے	کابن	کو	بازو	پکا-بوا	سے	میںڈھے	اور-روٹی	بے-خمیر	ایک	سے	ٹوکری
	H3947	H3548	H0853	H2220	H1311			H2471	H4682	H0259		H5536

וּרְקִיק	מִצָּה	אֶחָד	וְנָתַן	עַל־	כִּפִּי	הַנְּזִיר	אֶחָד	הַתְּנַלְחָה	אֶת־	נִזְרוֹ:
اور-پتلی-روٹی	بے-خمیر	ایک	اور-رکھے	پر	بتھیلیوں	نذیر-کی	بعد	مونڈنے-کے	کو	اپنی-نذر
H7550	H4682	H0259	H5414		H3709	H5139		H1548	H0853	H5145

رکھے۔ پر ہاتھوں کے شخص مخصوص کر لے روٹی ایک ایک کی قسموں دونوں سے میں ٹوکری اور شانہ بوا پکا ایک کا میںڈھے امام پھر

20	וְהַנְּזִיר	אוֹתָם	וְהַכֹּהֵן	תְּנוּפָה	לִפְנֵי	יְהוָה	קֹדֶשׁ	הוא	לְכֹהֵן	עַל	תְּזָה
	اور-بلانے	انہیں	کابن	بلانے-کی-قربانی	سامنے	یہوواہ-کے	مقدس	بے-یہ	کابن-کے-لیے	ساتھ	سینے
	H0853	H3548	H8573	H6440	H3068	H6944	H1931	H3548	H2373		

הַתְּנוּפָה	וְעַל	שׁוֹק	הַתְּרוּמָה	וְאֶחָד	יִשְׁתָּה	הַנְּזִיר	יָיִן:
بلانے-کی-قربانی-کے	اور-ساتھ	ران	بدیے-کے	اور-بعد-میں	پیئے	نذیر	مے
H8573		H7785	H8641		H8354	H5139	H3196

کی سلامتی ہے۔ حصہ کا امام جو بے قربانی مُقَدَّس ایک یہ بلانے۔ سامنے کے رب پر طور کے قربانی کی بلانے انہیں کر لے واپس چیزیں یہ وہ بعد کے اس ہے۔ اجازت کی پینے مے کو شخص بوئے کئے مخصوص پر اختتام کے قربانی ہیں۔ حصہ کا امام بھی ران بوئی اٹھائی اور سینہ بوا بلایا کا قربانی

21	זֹאת	תּוֹרַת	הַנְּזִיר	אֲשֶׁר	יִדֹר	קִרְבָּנוֹ	לְיְהוָה	עַל־	נִזְרוֹ	מִלֶּבֶד
	یہ	شریعت	نذیر-کی	جو	نذر-مانے	اُس-کی-قربانی	یہوواہ-کے-لیے	کے-علاوہ	اپنی-نذر-کے	علاوہ
	H2063	H8451	H5139		H5087		H3068		H5145	H0905

אֲשֶׁר־	תְּשִׁיג	יָדוֹ	כִּפִּי	נִדְרוֹ	אֲשֶׁר	יִדֹר	כֶּן	יַעֲשֶׂה	עַל	תּוֹרַת
جو	پہنچے	اُس-کا-ہاتھ	مطابق	اپنی-نذر-کے	جو	مانے	ایسا	کرے	مطابق	شریعت
	H5381	H3027	H6310	H5088		H5087			H8451	

نִזְרוֹ: **פ**
اپنی-نذر-کی
[H5145](#)

بھی آور وہ تو ہو گنجائش اگر کرے۔ پیش قربانیاں تمام مطابق کے ہدایات ان وہ کہ ہے لازم کرے۔ ہی ایسا وہ ہے کرتا مخصوص لئے کے رب کو آپ اپنے جو کرے۔ پوری ہدایات یہ اور منت اپنی وہ کہ ہے لازم حال بہر ہے۔ سکتا کر پیش

22	וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֶל־	מֹשֶׁה	לְאֹמֵר:
	اور-بولا	یہوواہ	سے	موسیٰ	کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

23	דָּבָר	אֶל־	אֶהְרֹן	וְאֶל־	בְּנָיו	לְאֹמֵר	כֹּה	תְּדַבְּרוּ	אֶת־	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל
	بول	سے	بارون	اور-سے	اُس-کے-بیٹوں	کہتے-ہوئے	یوں	برکت-دو	کو	بنی	اسرائیل
	H1696	H0413	H0175	H0413		H0559	H3541	H1288	H0853		H3478

אָמַר **ס**
کہتے-ہوئے
اُن-سے
[H0559](#)

دیں، برکت یوں کو اسرائیلیوں وہ کہ دینا بتا کو بیٹوں کے اُس اور بارون

24
برکت دے- تجھے یہوواہ اور- حفاظت- کرے- تیری
-
H1288 H3068 H8104

کرے۔ حفاظت تیری اور دے برکت تجھے رب

25
چمکائے یہوواہ اپنا- چہرہ تجھ- پر اور- مہربان- ہو- تجھ- پر
-
H0215 H3068 H6440 H0413

کرے۔ رحم پر تجھ اور چمکائے پر تجھ نور مہربان کا چہرے اپنے رب

26
اُنھائے یہوواہ اپنا- چہرہ تجھ- پر اور- رکھے تیرے- لیے
-
H5375 H3068 H6440 H0413 H7965

بخشے۔ سلامتی تجھے وہ اور ہو، پر تجھ کرم نظر کی رب

27
اور- رکھیں کو میرا- نام پر بنی اسرائیل اور- میں
-
H0853 H8034 H3478 H0589 H1288

گا۔ دوں برکت اُنہیں میں پھر دیں۔ برکت کو اسرائیلیوں کر لے نام میرا وہ یوں